



جس کو فاقہ میں مبتلا کیا گیا اور اس نے اپنی حالت لوگوں سے بیان کرنی شروع کردی تو ایسے شخص کا فاقہ دور نہیں کیا جائے گا لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ جلد یا بدیر اسے رزق عطا فرمائے گا

عبداللہ بن مسعود - رضی اللہ عنہ - سے روایت کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: ”جسے فاقہ لاحق ہو جائے اور وہ لوگوں سے بیان کرے، تو ایسے شخص کا فاقہ دور نہیں کیا جائے گا اور اگر وہ اللہ کے حضور ظاہر کرے تو اللہ تعالیٰ جلد یا بدیر اسے رزق عطا فرمائے گا“

[صحیح] [اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے - اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے - اسے امام احمد نے روایت کیا ہے]

ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: ”جسے فاقہ لاحق ہو جائے“ فاقہ بمعنی سخت حاجت، اس کا اکثر استعمال فقر اور تنگدستی میں ہوتا ہے اور وہ لوگوں سے بیان کرے یعنی اس نے لوگوں کے سامنے اپنے فاقہ کو بیان کیا اور ان سے اسے شکوے بیان کر کے ان سے اس فاقہ کو دور کرنے کی مدد مانگی ایسا کرنے سے ”ایسے شخص کا فاقہ دور نہیں کیا جائے گا“ یعنی اس کی حاجت ختم نہیں ہوگی اور نہ اس کا فاقہ دور ہوگا، جب کبھی اسی کی کوئی حاجت پوری ہوگی تو دوسری حاجت پیش آئے گی جو اس سے بھی سخت ہوگی ”جس نے اللہ کے حضور ظاہر کیا“ یعنی اپنے مولیٰ پر اعتماد کیا اللہ تعالیٰ جلد اسے عنقریب مال عطا کرے گا اور اسے بے نیاز کر دے گا ”یا بدیر“ یعنی آخرت میں اسے رزق (ثواب کی شکل میں) دے گا

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/4183>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

